

ROOTWORDS SURAH QASAS 44-88

|                  |                     |                         |                            |                          |                     |
|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| فَطَّأَوْا       | ثَاوِيًا            | نَادَيْنَا              | وَصَلْنَا                  | مَوْتِنِ                 | يَذُرُّوْنَ         |
| ط و ل            | ث و ي               | ن د و                   | و ص ل                      | م ر ر                    | د ر آ               |
| پھر طویل گذر گئی | رہنے والے تھے       | ہم نے آوازی             | ہم پے در پے بھیجتے رہے     | دگنا                     | وہ دور کرتے ہیں     |
| اللَّغْوِ        | نَبْتَعِي           | أَحْبَبْتُ              | نُتَخَطَفُ                 | يُخْجِي                  | بَطْرَتْ            |
| ل غ و            | ب غ ي               | ح ب ب                   | خ ط ف                      | ج ب ي                    | ب ط ر               |
| بیہودہ بات       | ہم چاہتے            | جسے تو چاہے             | ہم اچک لیے جائیں           | پہنچایا جاتا ہے          | اترا ہے تھے۔        |
| لَا قِيَهُ       | مَتَعْنَاهُ         | تَزْعُمُونَ             | تَبْرَأْنَا                | فَعَمِيَتْ               | يَخْتَارُ           |
| ل ق ي            | م ت ع               | ز ع م                   | ب ر آ                      | ع م ي                    | خ ي ر               |
| اسے پانے والا    | جسے ہم نے فائدہ دیا | تم دعویٰ کرتے تھے       | ہم بیزار ہوتے ہیں          | تو وہ اندھے ہو جائیں گے، | برگزیدہ کر لیتا ہے۔ |
| تَكِيُّ          | سَرْمَدًا           | بِضِيَاءٍ               | تَسْكُنُونَ                | نَزَعْنَا                | الْكُنُوزِ          |
| ك ن ن            | س ر م د             | ض و أ                   | س ك ن                      | ن ز ع                    | ك ن ز               |
| پوشیدہ ہوتا ہے   | بیشہ                | روشنی                   | تم آرام پاؤ                | ہم نکال کر لائیں گے      | خزانے               |
| مَفَاتِيحُهُ     | لَتُنُوءُ           | بِالْعَصْبَةِ           | تَفْرَحُ // الْقَرَحِيِّنَ | حَطَّ                    | فَحَسَفْنَا         |
| ف ت ح            | ن و أ               | ع ص ب                   | ف ر ح                      | ح ط ظ                    | خ س ف               |
| کنجیاں           | اٹھانی مشکل ہوتیں   | جماعت                   | اترا // اترانے والوں کو    | نصیب                     | پھر ہم نے دھنسا دیا |
| بِدَارِهِ        | فِتْنَةٍ            | تَمَتُّوا               | بِالْأَمْسِ                | يَبْسُطُ                 | لَحَسَفَ            |
| د و ر            | ف أ ي               | م ن ي                   | ا م س                      | ب س ط                    | خ س ف               |
| اس کے گھر کو     | کوئی جماعت          | تمنا کرتے تھے           | کل                         | کشادہ کرتا ہے            | تو دھنسا دیتا       |
|                  |                     | لَرَأَيْكَ              | يَصُدُّكَ                  |                          |                     |
|                  |                     | ر د د                   | ص د د                      |                          |                     |
|                  |                     | وہ آپ کو پھر پہنچائے گا | وہ ہرگز روک دیں            |                          |                     |